



AUSTRALIAN HIGH COMMISSION ISLAMABAD

31 جنوری 2017

پریس ریلیز

پاکستان میں آسٹریلیا کا پانی کا پروگرام زراعت و آبی انتظام کو بہتر بنائے گا

پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر، مارگریٹ ایڈمز، اور وفاقی وزیر دفاعی پیداوار اور سائنس اور ٹیکنالوجی رانا تنویر حسین نے آج پاکستان میں پانی کے انتظام کو بہتر بنانے اور زرعی پیداوار کو فروغ دینے کی صلاحیت کی تعمیر کے لئے، دونوں ملکوں کے بیچ دوطرفہ تعاون جاری رکھتے ہوئے، پاکستان میں آسٹریلیا کی حکومت کے AUD15m پانی کے منصوبے کا آغاز کیا۔

بین الاقوامی زرعی تحقیق کے لئے آسٹریلیا کی حکومت کا سینٹر (ACIAR) وفاقی اور صوبائی زراعت و لائیو سٹاک کے محکموں، آبی وسائل میں پانی کی تحقیق کے لئے پاکستان کونسل (PCRWR)، پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل (پی اے آر سی) اور یونیورسٹی کے تحقیقی اداروں کے ساتھ مل کر زرعی شعبے میں ترقی کی راہ میں حائل سماجی، اقتصادی اور پالیسی رکاوٹوں کے حل کے لئے کام کر رہا ہے۔

ہائی کمشنر ایڈمز نے کہا کہ آسٹریلیا 1980 کے بعد سے پاکستان میں زرعی تحقیق کی حمایت کر رہا ہے۔ "زرعی شعبے میں آسٹریلیا کی مسلسل حمایت اور مہارت عوامی سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان میں زراعتی منافع کو فروغ دینے اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد دے گی"، محترمہ ایڈمز نے کہا۔ آسٹریلیا کی ایک ہزار سے زائد کمپنیاں اس اہم شعبے میں مشورہ اور ٹیکنالوجی فراہم کر سکتی ہیں۔"

پانی کا یہ پروگرام پانی کے وسائل کے موثر انتظام اور نیشنل واٹر کمیشن اور نیشنل واٹر پالیسی کی ترقی کے لئے پاکستان کی حکومت اور تکنیکی ماہرین اور سول سوسائٹی کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا۔

"پانی کے انتظام میں تعاون ہمارے باہمی تعلقات کا ایک اہم اور بڑھتا ہوا پہلو ہے۔ پانی کا یہ پروگرام اس انتہائی اہم شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان علم اور مہارت کے تبادلے کے مزید مواقع فراہم کرے گا۔" محترمہ ایڈمز نے کہا۔

پانی کے اس پروگرام میں آسٹریلیا کی حکومت کا بارہ سالہ انڈس پائیدار ترقی اور سرمایہ کاری پورٹ فولیو (SDIP) بھی شامل ہے جو سندھ طاس کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کی میپنگ کر رہا ہے۔ دولت مشترکہ کی سائنسی اور صنعتی تحقیق کی تنظیم (CSIRO) سے تعلق رکھنے والے آسٹریلیا کے سائنسدان موثر پانی کے انتظام اور پاکستان کے آبی مینیجرز کی صلاحیت کی تعمیر کے لئے پانی اور بجلی کی وزارت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پانی کے اس منصوبے میں زراعت کے لئے زمینی پانی کی مینجمنٹ بہتر بنانے کے لئے ACIAR کے تین فارم کی سطح کے منصوبے بھی شامل ہیں۔

صحافیوں اور ایڈیٹرز کے لئے نوٹ: مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی آسٹریلوی ہائی کمشنر کے میڈیا اینڈ پبلک ڈپلومیسی ڈپارٹمنٹ سے اس ای میل پہ رابطہ کریں: bushra.naz@dfat.gov.au